



ئەو رۆزەی مالھوھم بەجى ھېشت بۇ ئەوهى بچم بۇ شار

Den dagen eg drog heimanfrå for å dra til byen

- ✎ Lesley Koyi, Ursula Nafula
- ☞ Brian Wambi
- ☞ Agri Afshin
- 💬 kurdisk (sorani) / nynorsk
- 🔊 nivå 3





له گوندەکەی ئىمە ويستگە يەكى بچووكى بوسىلى بىو، كە پې بىو
لە خەلک و بوسى زۆرى لى راپەوستا. لە سەر عەرزەكە شتىيىكى
زۆرى لى بىو كە دەبوايە بار كرابان. شاگىرىد شۆفىرەكان هەراي ناوى
شويىنه كانيان دەكىد كە بوسەكان بۇي دەچۈن.

...

Den vesle busstasjonen i landsbyen min var travel og stappfull av bussar. På bakken var det fleire ting som skulle lastast. Medhjelparane ropte namna på stadane dit bussane gjekk.



گویم له ده نگی شاگردش و فیریک بوو که هه رای ده کرد: "شار" "شار" "ویستگه رۆژئاوا!" ئه وه ئه و بوسه بوو که من ده بوايە سوار بوايەم.

...

"Byen! Byen! Vestover!" høyrde eg ein medhjelpar ropa. Det var bussen eg måtte ta.



بووسى شار هەميشە پر بۇو، بەلام خەلک ھەر پالىان بە يەكتىرە وە دەنا بۆ ئەوهى سوار بن. ھەندىك بارەكانى خۆيان دەخستە ناو سندووقى زىر بۇو سەكە وە. ئەوانى دىكەش دەيانھىنايە ناو بۇو سەكە و لەسەر بارپىچەكانى ژوورە وەيان دادەنا.

...

Bussen til byen var nesten full, men fleire folk dytta for å koma om bord. Nokre plasserte bagasjen sin i bagasjerommet under bussen. Andre la han på hyllene inne i bussen.



گه شتیاره نوییه کان بلیته کانیان به توندی له ناو دهستیان گرتبوو و
له ناو بووسه قهره بالغه کهدا به دواى شوینیکدا ده گه ران دابنیشن.
ژنه کان هه ولیان دهدا شوینیکی گونجاو بؤ مناله کانیان بدؤزنه وه له
گه شته دوور و دریزه که یاندا.

...


Nye passasjerar klamra seg til billettane sine
medan dei såg etter ein stad å sitja sidan det var
trongt om plassen. Kvinner med unge born la til
rette for dei så dei skulle få det behageleg under
den lange reisa.



من به زور شوینی خوم له تهنيشت په نجه ره يه که وه کرده وه. ئه و
پياوهی له تهنيشت منه وه دانيشتبوو، کيسه يه کي سهوزي له ناو
دهستدا بwoo. ئه و سهنده لېکي ده پيدا بwoo، و کوتېکي کونه شى
پوشيبوو. پياوه که په شوکاو ديار بwoo.

...

Eg pressa meg inn ved sida av eit vindauge.
Personen som sat ved sida av meg heldt hardt
om ein grøn plastpose. Han hadde på seg gamle
sandalar, ein utslitен frakk, og han såg nervøs ut.



لە پەنجەرەكەوھ سەيرى دەرىم دەكىد كە خەرىك بۇو لە گۈندەكەم
دۇور دەكەوتەمەوھ. ئەو شوينەي كە لىيى گەورە بیووم. من
دەمەھەوېست بچم بۆ شارە گەورەكە.

...

Eg såg ut av bussen og innsåg at eg var i ferd
med å forlata landsbyen min, staden der eg
hadde vakse opp. Eg skulle dra til den store byen.



هه موو که لوپه له کان بار کران و گه شتیاره کانیش له شوینه کانیان
دانیشتن. ده ستفرؤشه کان هیشتا هه ر به زور خویان به ناو بوو سه که دا
ده کرد بو ئه وهی شته کانیان به گه شتیاره کان بفرؤشن. ئه وان هه رایان
بو ئه و شتنه ده کرد که ده یانفرؤشتن. نیوی شته کان زور سهیر بوون.

...

Lastinga av bagasjen var ferdig og alle
passasjerane hadde sett seg. Gateseljarar pressa
seg enno inn i bussen for å selja varene sine til
passasjerane. Alle ropte namna på det dei hadde
til sals. Eg syntest orda høyrest merkelege ut.



ههندیک له گهشتیاره کان خواردنەوەیان کرپی، ئەوانى دیكەش خواردنیان کرپی و دەيانخوارد. ئەوانەشى كە پارەیان نەبۇو، وەكۈو من، تەنبا چاوابىان لى دەكرد.

...

Nokre få passasjerar kjøpte noko å drikka, andre kjøpte små snacks som dei byrja å tygga på. Dei som ikkje hadde nokre pengar, som eg, berre såg på.



له گه ل هه رای شو فیر، هه موه نه و جموجو لانه کوتاییان پن هات.
شا گرد شو فیر که به ده ستفرؤشہ کانی گوت ده بی بچنه خواره وه.

...

Desse aktivitetane vart avbrote av tutinga til bussen, eit teikn på at vi var klare til å dra. Ein medhjelpar ropte at gateseljarane måtte koma seg ut.



دەستفروشەكان پالىان بە يەكتىرەوە دەنا بۇ ئەوهى زوو لە بۈوسمەكە بچنە خوارەوە. ھەندىيەك باقى پارەكانيان دەدايەوە بە گەشتىيارەكان. ھەندىيەكى دىكەشيان ھەولىان دەدا لە كۆتا دەرفەتدا شتى زىاتر بفروشنى.

...

Gateseljarar dytta kvarandre for å koma seg ut av bussen. Nokre gav tilbake vekslepengar til dei reisande. Andre freista i siste liten å selja nokre fleire varer.



کاتن بوسه که ویستگه که بجهی هیشت، من له پنهانجه ره که ووه
سهیری ده ریم ده کرد. بیرم له وه ده کرده وه که ئایا جاریکی دیکه
ده توانم بگه ریمه وه بو گوندنه که م.

...

I det bussen forlét busstasjonen, stira eg ut av
vindaugen. Eg lurte på om eg nokosinne skulle
koma tilbake til landsbyen min igjen.

ورده ورده، به دریزایی گه شته که مان، هه واي ناو بوسه که گه رم بوو.
من چاوه کانم نووقاند به ئومىدى ئه وهى که خهوم لى بکه وهى.

...

Etter kvart som reisa heldt fram vart det veldig
varmt i bussen. Eg lukka auga og håpte å få sova.



بهلام ههربيرم لاي مالهوه بooo. ئايا دايكىم سەلامەت دەبى؟ ئايا
دەتوانىم هيچ قازانجىك له كەرويىشكەكانم بىكم. ئايا براكەم له بىرى
دەبى درەختە ساواكانم ئاو بىدات؟

...

Men tankane mine vandra heim. Kjem mor mi til å
verta trygg? Kjem kaninane mine til å innbringe
nokre pengar? Kjem bror min til å hugsa å vatna
dei nyutsprungne trea mine?





لە رېڭا توانيم نېيۇي ئەو شاره گەورە لەبەر بىكم كە مامم لېي دەزيا.
نېيۇي شارەكەم لەبەر خۆمەوە دەگۇتەوە تا ئەوهى خەوم لى كەوت.

...

På vegen lærte eg meg utanåt namnet på staden i den store byen der onkelen min budde. Eg mumla enno då eg fall i søvn.



نۆ کاتزمیر دواتر، به ده نگی به رزی پیاویک به خه بهر هاتم که هه رای
گه شتیاره کانی ده کرد بؤ گه رانه وه بؤ گوندہ که م. منیش جانتا
چکوله که م هه لگرت و له پاسه که هاتمه خواره وه.

...

Ni timar seinare vakna eg av høglydt banking og
roping etter passasjerar som skulle tilbake til
landsbyen min. Eg greip fatt i den vesle veska mi
og hoppa ut av bussen.



بووسيه که ده گه راييه وه، زور زوو پر بwoo. گرنگترین شت بو من ئىستا
ديتنه وهى مالى مامم بwoo.

...

Bussen som skulle tilbake vart fylt opp fort. Det
viktigaste for meg no var å byrja å leita etter
huset til onkelen min.



Barnebøker for Norge

barneboker.no

ئەو رۆزەي مالھوھم بەجى ھىشت بۇ ئەوهى بچم بۇ شار

Den dagen eg drog heimanfrå for å dra til byen

Skrevet av: Lesley Koyi, Ursula Nafula

Illustret av: Brian Wambi

Oversatt av: Agri Afshin (ckb), Espen Stranger-Johannessen, Martine Rørstad Sand (nn)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreforsidlet av Barnebøker for Norge (barneboker.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons
[Navngivelse 4.0 Internasjonal Lisens](#).